

یکم جولائی تا 31 دسمبر 2018

شیڈول آف چارجز

0800-011-22 | www.jsbl.com
323 Branches in 161 Cities
<https://www.facebook.com/JSBankLtd/>

 **JS BANK**
BARHNA HAI AAGEY

بین الاقوامی بینکنگ

A۔ درآمدات

(i) نقد لیو آف کریڈٹ	کلی سہ ماہی یا	اس کے بعد ہر سہ ماہی یا	کم از کم روپے
(ii) مبادلے/ امداد اقرضے کے تحت ناقابل واپسی لیو آف کریڈٹ	اس کا حصہ	اس کا حصہ	2,000 روپے
(iii) سائنٹ/ مقررہ مدت ایام کے لیو آف کریڈٹ اور معاہدے/ وصولی شرائط کے تحت مقامی/ درآمد شدہ بلز کی ریٹرنمنٹ کے وقت	0.40 فیصد	0.30 فیصد	1,500 روپے
(iv) لیو آف کریڈٹ کے تحت ٹرانسم	0.10 فیصد فلیٹ۔ کم از کم 1,500 روپے	1.00 فیصد یا اس کا حصہ۔ کم از کم 1,500 روپے	1,500 روپے
(v) (a) درآمد شدہ ایل/ سی (سائنٹ) کے تحت بلز کی صورت میں مارک اپ	چھٹ کی مدت یا رقم میں اضافے کے علاوہ ٹرانسم کیلئے 1,000 روپے فی ٹرمیم، اگر ٹرمیم چھٹ کی مدت یا رقم کے اضافے چھٹی سے تو اوپر بیان کردہ آئٹیم (i) یا (ii) کے تحت شرح کمیشن ہوگا۔ جو کم از کم 1,500 روپے ہے۔	(a) سالانہ 18.00 فیصد اس صورت میں جب بل، نکلوانے کی تاریخ ایڈوائس سے 15 دن کے اندر ریٹائرڈ ہو۔	
(b) درآمد شدہ/ مقامی ایل/ سی جو تاریخ ادائیگی پر ریٹائرڈ نہ ہوئے ہوں، کے تحت مقررہ مدت ایام کے بلز کی صورت میں مارک اپ	(b) سالانہ 25.00 فیصد اس صورت میں جب بل، نکلوانے کی تاریخ ایڈوائس کے 15 دن بعد ریٹائرڈ ہو۔	25.00 فیصد سالانہ پر	
(vi) آئیٹمز کی بغیر ادائیگی واپسی	-/2,000 روپے (فلیٹ)	ایل/ سی کی مبادلہ ہونے کے بعد تاریخ ادائیگی کی صورت میں بل کی رقم پر ماہانہ 0.10 فیصد ایکسیسشن کمیشن ہوگا۔	
(vii) مقررہ مدت ایام کے ایل/ سی (مقامی/ غیر ملکی) پراکسیٹس کمیشن	0.20 فیصد (فلیٹ)۔ کم از کم 2,000 روپے	چھٹ کی مدت یا رقم میں اضافے کے علاوہ ٹرانسم کی صورت میں 1,000 روپے فی ٹرمیم، اگر ٹرمیم چھٹ کی مدت یا رقم کے اضافے چھٹی سے تو اوپر بیان کردہ آئٹیم (a) کے تحت شرح کمیشن ہوگا۔ جو کم از کم 2,000 روپے ہے۔	
(viii) (a) سی اے ڈی/ ڈی بی/ ڈی اے کی بنیاد پر درآمد کیلئے معاہدے کا اخراج	2,000 روپے فی آئٹیم (فلیٹ) بشمول ٹیرف کے مطابق اپورٹ سروس چارجز کی مد میں ٹی ٹی اور ایف ایکس	2,000 روپے فی آئٹیم (فلیٹ)	
(ix) بیٹنگی ادائیگی	2,000 روپے (فلیٹ)		
(x) ایئر وے ٹل کی تصدیق/ ضمانت جو ٹینٹ کیٹیز کو مال برداری کے بلز کی مد میں جاری کی جاتی ہے۔			
مستفید ہونے والے اور/ یا غیر ملکی خریدار پر کریڈٹ رپورٹ			

- (xi) کوریئر چارجز
- (a) مقامی
- (b) غیر ملکی
- (xii) درآمداتی (ایل/ای) سی پر شارٹ کیبل/سوفٹ چارجز
- (xiii) درآمداتی (ایل/ای) سی پر فل کیبل/سوفٹ چارجز
- (xiv) بذریعہ سوفٹ ایل/ای سی میں ترسیم
- (xv) مقامی (Inland) ایل/ای سی
- (xvi) مقامی ایل/ای سی پر ترسیم
- (xvii) رقم یا مدت میں اضافے پر مبنی ترسیم کی صورت میں
- (xviii) ڈرافٹ ایل/ای سی چارجز

B۔ برآمدات

- FCY ٹرنس کی خواہگی اور ڈپازٹس کی مد میں افغانستان اور وسطی ایشیا کو برآمد کرنے کے چارجز
- ہینڈلنگ چارجز
- (i) لیٹرز آف کریڈٹ
- (a) ایل/ای سی کی ایڈوانسنگ
- (b) ترسیم کی ایڈوانسنگ
- (ii) لیٹرز آف کریڈٹ کے تحت روپی بلز
- قابل گفت و شنید/ وصولی
- (iii) تصدیق
- (iv) درآمداتی لیٹرز آف کریڈٹ کی منتقلی
- (v) نان۔ ریزروڈ روپی/اسے سی یو/اراکوئٹس سے دیگر بینکوں میں خرچ شدہ رقم کی ادائیگی
- (vi) محدود ایل/ای سی کے تحت دیگر مقامی بینکوں کو دستاویزات بھیجنے کی صورت میں وصولی
- (vii) وصولی
- غیر ملکی کرنسی
- (a) کلین۔ برآمدات کیلئے
- (b) برآمدات کی دستاویزی وصولی

-/250 روپے (فلیٹ)

-/2,500 روپے

-/600 روپے

-/1,200 روپے

-/700 روپے

ہر سرمایہ پر 0.35 فیصد یا اس کا حصہ کم از کم 3,000 روپے

1,000 روپے فی ترسیم (فلیٹ)

کم از کم 2,000 روپے فی ترسیم

کوئی نہیں

FCY ٹرنس کی مد میں وسطی ایشیا کے ممالک بشمول افغانستان کو برآمد کرنے کیلئے 0.075 فیصد

FCY ٹرنس میں ایڈوانس ادائیگی کی مد میں 0.075 فیصد

JS بینک کسٹمرز کیلئے -/500 روپے

دیگر کسٹمرز کیلئے -/2,000 روپے

JS بینک کسٹمرز کیلئے -/350 روپے

دیگر کسٹمرز کیلئے -/1,000 روپے

0.25 فیصد کم از کم -/1,000 روپے

0.25 فیصد فی سرمایہ کم از کم -/3,000 روپے

-/1,000 روپے (فلیٹ)

-/2,000 روپے

-/500 روپے (فلیٹ)

-/500 روپے (فلیٹ)

-/500 روپے (فلیٹ)

D۔ ترسیلات

(i) غیر ملکی آؤٹ ورڈ ڈرافٹس/ٹیلیگرافک ٹرانسفرز/دیگر	10 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی، بشمول 0.50 فیصد اضافی (کم از کم 20 امریکی ڈالر) جہاں ترسیلات زر رقم جمع کرانے کی مدتیں کی جاتی ہیں جو تمام کرنسی کیلئے 30 دن کے اندر فارن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرانی گئی ہو۔
(ii) ان ورڈ	کوئی چارجز نہیں، اگر منافع ہمارے بینک میں کھولے گئے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو۔ دیگر صورت میں 3,000/- روپے فلیٹ چارجز۔ (کیش ماسٹر) ہوں گے۔
(iii) غیر ملکی کرنسی چیکس/ڈرافٹس کی خرید (بشمول انٹرسٹ)	انٹرسٹ ایل آئی بی او کی شرح + 5 فیصد امریکی ڈالرز میں نکلوانے گئے انٹرسٹ منٹ 0.5 فیصد کم از کم - 500 روپے امریکی ڈالرز کے علاوہ دیگر کرنسیوں میں نکلوانے گئے انٹرسٹ منٹ 1 فیصد، کم از کم - 500 روپے 5 امریکی ڈالر - 700 روپے (جو بھی زائد ہو) فیملی پلینٹینس - 3,000 روپے سالانہ بیرون ملک تعلیم کیلئے - 5,000 روپے پہلے سال، اس کے بعد ترسیلات پر عام چارجز کے علاوہ 3,000/- روپے سالانہ، اگر ہوں 1,200/- روپے فی کیس 5 امریکی ڈالر یا 700 روپے (جو بھی زائد ہو) 750/- روپے
(iv) غیر ملکی کرنسی کی وصولی/چیکس	
(v) غیر ملکی مبادلے کے اجازت نامے	
(vi) سرمائے کی منتقلی، ڈیپوٹ کی ترسیل اور غیر ملکی کرنسی میں قرضہ جات وغیرہ کے تحت ترسیل سے متعلق اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مخصوص منظوری کا اہتمام کرنا	
(vii) ڈرافٹ کی منسوخی	
(viii) چھ ماہ قبل کی گئی ٹرانزیکشن کیلئے پی آر سی (پروویڈرز ریکارڈزیشن سرٹیفیکیشن) تیار کرنا	
(ix) FCY کیش پیڈ لنک چارجز	
نوٹ: 25 اور 50 امریکی ڈالرز کی کم از کم رقم کے ذیادہ، 1.75 فیصد کی شرح سے وصول کئے جائیں گے۔ کم از کم - 1,000 روپے	

E۔ حقوق

(i) کسٹمر کیلئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے منظوری کا حصول	1,200/- روپے فی کیس اصل پر
(ii) کارپوریٹ منس کے چارجز	8 امریکی ڈالر یا - 1,000 روپے (جو بھی زائد ہو)
(iii) غیر ملکی ٹیلیگرافک ٹرانسفرز پر سوئفٹ چارجز	50/- روپے فی شیٹ (اندرون شہر)
(iv) فیکس چارجز، اگر کسٹمر نے درخواست کی ہو	100/- روپے فی شیٹ (بیرون شہر)
(v) غیر ملکی بلز کی غیر ادا شدہ واپسی پر چارجز	500/- روپے فی شیٹ (بیرون ملک)
(vi) متفرق غیر ملکی فیکس/سوئفٹ چارجز	600/- روپے 20 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی

ڈومیسٹک بینکنگ

A۔ ترجیحات زر

0.10 فیصد کم از کم - 300 روپے (جو بھی زائد ہو)

(i) مقامی کار سپلائر ٹینگیوں کے ذریعے موٹر گئے ڈرافٹ کیلئے

نوٹ: سینٹرلائزیشن یا دیگر مقصد کیلئے کسی بھی طریقے سے جہاں بینک کی برانچوں کے ذریعے وصولی کا منافع دیگر مقام پر ترسیل کیا جائے، ترسیل چارجز مذکورہ شرح پر وصول کئے جائیں گے۔

(ii) پے آرڈرز

اکاؤنٹ کی مد میں - 400 روپے

کیش کی مد میں - 3,000 روپے

کل رقم کا 0.5 فیصد (زیادہ سے زیادہ 25 روپے بشمول FED)

(iii) تعلیمی اداروں کے حق میں پے آرڈر

(iv) آئیٹمز کی غیر ادا شدہ واپسی

• آؤٹ ورڈ کٹیرنگ

• ان ورڈ کٹیرنگ

• کاؤنٹر پر

(v) پے آرڈر / ڈیمانڈ ڈرافٹس کی منسوخی

(vi) اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چیکس کا اجراء

(اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اجازت دی ہو)

(vii) آر ٹی بی ایس چارجز

مفت

- 550 روپے (فلیٹ)

- 450 روپے (فلیٹ)

- 1,000 روپے / فی انسٹرومنٹ

- 500 روپے فی چیک

ایام ٹرانزیکشن نام و پتہ وز

میں 9 بجے تا دوپہر 3 بجے

دوپہر 3 بجے تا سہ پہر 3:30

سہ پہر 3:30 بجے تا شام 4:30 بجے

مختلف کریڈٹ کی منتقلی (ایک ہی بینک میں)، ہر ٹرانزیکشن کیلئے - 100,000 روپے کی کم قیمت حد کیساتھ

میں 9 بجے تا شام 4:30 بجے ہر منتقلی / ٹرانزیکشن پر - 50 روپے

PRISM سرویز ہیرتا جمہوریت 9 بجے سے دوپہر 3:00 بجے تک JS بینک کی تمام برانچز سے حاصل کی جاسکتی ہیں

B۔ بلز

(i) وصولیاں

(a) کلین (بشمول چیکس)

(ii) بلز / چیکس وغیرہ کی خرید

(a) لیئر آف کریڈٹ اور کلین بلز / ڈریڈ چیکس کی مد میں نکلائے

گئے کے علاوہ دستاویزی بلز

(b) دیگر چیکس / ڈیمانڈ انسٹرومنٹس جیسا کہ ڈریڈ چیکس وائٹس

وغیرہ

(c) بلز / چیکس پر وصول ڈاک

(d) کوریئر چارجز

0.18 فیصد کم از کم - 300 روپے

اوپر بیان کردہ (a) کے مطابق وصولی کیلئے وہی چارجز بشمول ہر 15 دن کیلئے 0.75 فیصد مارک۔

ڈاؤن پاس کا حصہ

0.40 فیصد - یا - 300 روپے (جو بھی زائد ہو)

- 100 روپے

- 150 روپے

C۔ چیکس

سرمائے پر مارک - اپ / ریٹرن کے علاوہ درج ذیل چارجز وصول کئے جائیں گے۔

(i) متفرق چارجز

(مثلاً دستاویزات کیلئے چارجز، بکچر ریٹی اور مینٹیننس وغیرہ کا

1 فیصد تخفیف)

اصل پر

اس کے علاوہ چارجز کیلئے کے معائنے کی فیس اور کنٹنٹ فیس 1 فیصد تک (جہاں ہر معاملے میں لاگو ہو)

(ii) رہن/ ہانچہ ٹیکیشن کی مد میں پیشگی رقم کیلئے چارجز درج ذیل کے تحت لاگو ہوں گے:

- (a) گودام کا کرایہ
- (b) گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں
- (c) گودام کے محاسب کے چارجز
- (i) بلند یا قی حدود کے اندر یا رائج سے 5 میل کے رداس کے اندر
- (ii) درج بالا حدود سے باہر
- (d) پہنچانے کے چارجز، اگر گودام کا محفظہ موجود نہ ہو، ترسیلی چارجز وصول کئے جائیں گے۔
- (e) دیگر اتفاقی اخراجات، انشورنس پر بیمہ وغیرہ
- (f) قانونی جائزے کے چارجز (بغیر مشاورت)
- (g) دستاویزات کے جائزے کے چارجز
- (h) رہن کے تحت سامان کی ترسیل
- (i) اسٹیٹ بینک سے سی آئی بی رپورٹ کا اہتمام (نی کیٹی/ فرد)
- (j) دیگر بینکوں/ قومی بچت مراکز کی جانب سے جاری کردہ کھوتی تحفظات پر استحقاق کیلئے بینڈ لٹک چارجز
- (k) رجسٹر کے آفس میں باہمی سرمائے پر استحقاق کیلئے بینڈ لٹک چارجز
- (l) ہم پر استحقاق کے تحت دیگر بینکوں/ قومی بچت مراکز کی جانب سے جاری کردہ کھوتی تحفظات پر منافع کے کوپن کی وصولی
- (m) AFB, FAPC, FIM, FATR, FBP, IBP, ERF, CF رہن کی تاخیر سے ادائیگی کی صورت میں ہسٹل کے چارجز
- (n) بینک کے استحقاق کے تحت ضمانتوں کی تہہ پٹی
- (o) کمرشل TF کی اقساط کی تاخیر سے ادائیگی (اگر TF کی دوبارہ ادائیگی امور ٹرانزیشن کی بنیاد پر ہو)
- لوٹن کی پروسیجرس
- (p) کریڈٹ فیسیلٹی کا ابتدائی جائزہ
- (q) عبوری جائزہ/ اضافہ/ حد سے تجاوز/ ون نام ٹرانزیکشنز
- (r) کریڈٹ فیسیلٹی میں عارضی اضافہ

اصل پر

اصل پر

اصل پر

صرف ترسیل کے اصل چارجز

اصل پر

اصل پر

اصل پر

اصل پر

-/5,000 روپے

-/1,000 روپے فی ترسیل

-/50 روپے (انتظامیہ کی صوابدید پر ختم کئے جاسکتے ہیں)

-/1,000 روپے فی واقعہ

-/1,000 روپے فی کیس (ہر باہمی سرمائے کیلئے الگ الگ)

-/1,000 روپے فی واقعہ

سالانہ 2 فیصد زائد اور مارک اپ کی عمومی شرح سے بڑھ کر

ہر تہہ پٹی پر 1,000 روپے (فلیٹ)

واجب الاوقاف کا 0.1 فیصد روزانہ

کارپوریٹ اور کمرشل

کارپوریٹ

ایس ایم ای

فیسیلٹی کا 0.12 فیصد یا کم از کم

-/6,000 روپے، جو بھی زائد ہو

فیسیلٹی کا 0.06 فیصد یا کم از کم

-/3,000 روپے، جو بھی زائد ہو

فیسیلٹی کا 0.06 فیصد یا کم از کم

-/3,000 روپے، جو بھی زائد ہو

فیسیلٹی کا 0.12 فیصد یا کم از کم

-/18,000 روپے، جو بھی زائد ہو

فیسیلٹی کا 0.06 فیصد یا کم از کم

-/9,000 روپے، جو بھی زائد ہو

فیسیلٹی کا 0.06 فیصد یا کم از کم

-/9,000 روپے، جو بھی زائد ہو

عملدرآمد کی قیمتیں -5000 روپے عملدرآمد کی قیمتیں -5,000 روپے عملدرآمد کی قیمتیں -3,000 روپے اصل پر اصل پر -2,000 روپے باہر (شرائط لاگو)	(s) دیگر بینکوں/ مالیاتی اداروں سے مزید قرض کے حصول کے لئے ان کے کرنٹ/ قلمبند اثاثہ جات پر اضافی/ پاریسیو چارج/ سیکینڈ چارج/ مخصوص چارج کی ترتیب کے لئے کسٹمر کی درخواست پر NOC کا اجرا (t) چارج کے پیشینہ کیلئے نوآئینگیوں کا اجرا (u) گرانٹ کی جانب سے جاری کردہ کریڈٹ ریپورٹس (v) پیج کال آپشن کیلئے معمولی چارجز (w) رینڈرا/ پیڈاری/ سائنٹ معائنہ کے ذریعے گروی جائیداد کی تصدیق (x) نقد وصولی کی خدمات -D مختص شدہ دیالٹ کی قیمتیں (i) مختص شدہ دیالٹ کی قیمتیں:
ترسیلی زر پر متعلقہ چارجز کے علاوہ -500 روپے فی ٹرانزیکشن، جہاں لاگو ہو گرانٹ کے شرائط کی تنخواہیں اٹھانے کیلئے (مستحق ترتیب کے مطابق) (i) بینک میں موجود اکاؤنٹس میں کریڈٹ - کوئی چارج نہیں (ii) پیڈ آرڈر/ ڈرافٹ 70 روپے حصول ڈاک/ کوریئر چارجز (i) اندرون شہر -70 روپے (ii) بیرون شہر -125 روپے -100 روپے (گرنٹ اکاؤنٹس پر لاگو نہیں)	(ii) اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں منتقلی -E پروپرائیٹی ایسے ٹی ایم/ ویزا ڈیبٹ کارڈ چارجز (i) ایسے ٹی ایم سے کیش اٹھانے کے چارجز (ii) چپ مینشینس چارجز (چپ ڈیبٹ کارڈز) (iii) پروپرائیٹی کارڈ کے اجراء کی قیمتیں (iv) پروپرائیٹی کارڈ کی سالانہ قیمتیں (v) ویزا ڈیبٹ کارڈ کے اجراء کی قیمتیں (vi) ویزا ڈیبٹ کارڈ کی سالانہ قیمتیں کلاسک کلاسک پلیٹینم گولڈ گولڈ پلیٹینم پلاٹینم پلاٹینم پلیٹینم ویزا اسٹیلر ڈیبٹ کارڈ ویزا اپری پیڈ کارڈ کی سالانہ قیمتیں (vii) ویزا ڈیبٹ کارڈ کا دوبارہ اجراء/ تجدید کلاسک کا دوبارہ اجراء گولڈ کا دوبارہ اجراء ویزا اسٹیلر کا دوبارہ اجراء ویزا اپری پیڈ کارڈ کا دوبارہ اجراء پلاٹینم کا دوبارہ اجراء کلاسک سے گولڈ میں تجدید گولڈ سے پلاٹینم میں تجدید کلاسک سے پلاٹینم میں تجدید
JS بینک سے ٹی ایم/ کوئی چارج نہیں 15 روپے (دیگر بینکوں کے ٹی ایم کے ذریعے) (جسٹ بک پروڈکٹ کی خصوصیات کے مطابق قیمت بنی گئی ہو) -500 روپے سالانہ کوئی نہیں -900 روپے سالانہ کوئی نہیں -1,000 روپے -500 روپے -2,000 روپے -1,000 روپے -3,500 روپے -1,750 روپے -15,000 روپے -1,000 روپے -700 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز) -1,250 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز) -9,000 روپے -700 روپے -1,800 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز) -1,250 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز) -1,500 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز) -2,400 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز)	(ii) چپ مینشینس چارجز (چپ ڈیبٹ کارڈز) (iii) پروپرائیٹی کارڈ کے اجراء کی قیمتیں (iv) پروپرائیٹی کارڈ کی سالانہ قیمتیں (v) ویزا ڈیبٹ کارڈ کے اجراء کی قیمتیں (vi) ویزا ڈیبٹ کارڈ کی سالانہ قیمتیں کلاسک کلاسک پلیٹینم گولڈ گولڈ پلیٹینم پلاٹینم پلاٹینم پلیٹینم ویزا اسٹیلر ڈیبٹ کارڈ ویزا اپری پیڈ کارڈ کی سالانہ قیمتیں (vii) ویزا ڈیبٹ کارڈ کا دوبارہ اجراء/ تجدید کلاسک کا دوبارہ اجراء گولڈ کا دوبارہ اجراء ویزا اسٹیلر کا دوبارہ اجراء ویزا اپری پیڈ کارڈ کا دوبارہ اجراء پلاٹینم کا دوبارہ اجراء کلاسک سے گولڈ میں تجدید گولڈ سے پلاٹینم میں تجدید کلاسک سے پلاٹینم میں تجدید

-/800 روپے فی ٹرانزیکشن یا 4 فیصد جو رقم زائد ہو	(viii) بین الاقوامی اسے ٹی ایم سے کیشنگلوان
کوئی نہیں	ماسٹر کارڈ بیٹ کارڈ چارجز
-/1,100 روپے	ماسٹر کارڈ بیٹ کارڈ کے اجراء میں فیس
-/550 روپے	ماسٹر کارڈ کی سالانہ فیس
-/2,000 روپے	ماسٹر کارڈ گولڈ
-/1,000 روپے	ماسٹر کارڈ گولڈ سلیمنٹری
-/3,500 روپے	ماسٹر کارڈ ٹائٹیم
-/1,750 روپے	ماسٹر کارڈ ٹائٹیم سلیمنٹری
-/15,000 روپے	ماسٹر کارڈ ٹائٹیم سلیمنٹری
-/700 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز)	ماسٹر کارڈ کا دوبارہ اجراء/تجدید
-/1,250 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز)	ماسٹر کارڈ گولڈ کا دوبارہ اجراء
-/1,800 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز)	ماسٹر کارڈ ٹائٹیم کا دوبارہ اجراء
-/12,000 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز)	ماسٹر کارڈ ٹائٹیم کا دوبارہ اجراء
-/1,250 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز)	ماسٹر کارڈ گولڈ سے ٹائٹیم میں تبدیلی
-/1,500 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز)	ماسٹر کارڈ ٹائٹیم سے ماسٹر کارڈ ٹائٹیم/گولڈ میں تبدیلی
-/2,400 روپے (پریسل اور اضافی کارڈز)	ماسٹر کارڈ گولڈ سے ماسٹر کارڈ ٹائٹیم میں تبدیلی
ماسٹر کارڈ بیٹ کارڈ کنسل کرو یا چارج اور منتخب شدہ کلنگری کیلئے مکمل ویزا سسٹریشن چارجز لاگو ہوں گے	ماسٹر کارڈ بیٹ سے ویزا کارڈ میں تبدیلی (سوچنگ فیس)
مفت	ویزا ڈی بیٹ کارڈ سے ماسٹر کارڈ میں (سوچنگ فیس)
مفت	ٹی او ایس ٹرانزیکشنز (مقامی)
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3.5 فیصد	ٹی او ایس ٹرانزیکشنز (بین الاقوامی)
JS بینک اور 1 Link ATMs پر مفت	ٹیلیفون کی معلومات
(M-Net Bank ATMs) -/5 روپے	(xi) منی اسٹینٹ
(بین الاقوامی ATMs پر) -/200 روپے	(xii) دوبارہ حصول کے چارجز
مفت	(xiii) چارج فیس/چارج بیک
مفت	(xiv) کارڈ پیپر (بین الاقوامی)
-/700 روپے (ٹی ٹرانزیکشن)	(xv) ویزا ڈی بیٹ کارڈ انٹرنیٹ مؤثر کرنے کے چارجز
1500 امریکی ڈالرز	(xvi) ویزا ڈی بیٹ کارڈ حد میں اضافے کی سالانہ فیس
15 امریکی ڈالرز	(xvii) ویزا ڈی بیٹ کارڈ براہ راست مؤثر کرنا
-/300 روپے سالانہ	(xviii) ویزا ڈی بیٹ کارڈ براہ راست فیلڈ زائر سفر
-/600 روپے سالانہ	F- ای بیکنگ خدمات
-/300 روپے سالانہ	(i) ایس ایم ایس الرٹس
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3 فیصد	(ii) ای - سٹیمٹس
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3 فیصد	(iii) انٹرنیٹ بینکنگ رجسٹریشن
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3 فیصد	(iv) یوٹیلٹی بلز ادائیگی کی سروس (یو پی پی ایس)
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3 فیصد	(v) آئی بی ایف ٹی (دیگر بینکوں کے مابین رقم کی منتقلی)
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3 فیصد	(vi) موبائل بینکنگ
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3 فیصد	G- کال سینٹر اور آئی وی آر خدمات (0800-011-22)
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3 فیصد	(i) ٹیلیفون کی معلومات
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3 فیصد	(ii) منی اسٹینٹ (وکس اینڈ فیس)

مفت
مفت
مفت

مقامی کرنسی اکاؤنٹس کیلئے

-/500 روپے (ایک چیک کیلئے)

-/800 روپے (کئی چیکس/مکمل چیک بک کیلئے)، غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس کیلئے 5 امریکی ڈالر فی چیک

-/35 روپے فی انٹرنٹ

-/350 روپے (فی مشورہ)

-/350 روپے (فی سرٹیفکیٹ)

-/450 روپے

-/150 روپے (فی چیک بشمول گورنمنٹ ڈیپازٹ)

-/1,200 روپے (JIS آسان کرنٹ اکاؤنٹ، JIS آسان سیونگ اور

PLS روپے سیونگ اکاؤنٹس کیلئے کوئی چارج نہیں)

وصول کنندہ چیک کے اکاؤنٹ میں منافع کرڈٹ کرنے کی صورت میں کوئی چارج نہیں۔ دیگر صورت میں مستفید ہونے والے کی مرضی کے مطابق کسی ادائیگی طریقہ کار پر لاگو چارجز وصول کئے جائیں گے۔

-/140 روپے (فی سرٹیفکیٹ)

-/5,000 روپے سالانہ یا -/44,000 روپے کاسکیو برہی ڈپازٹ

-/8,000 روپے سالانہ یا -/70,000 روپے کاسکیو برہی ڈپازٹ

-/9,000 روپے سالانہ یا -/85,000 روپے کاسکیو برہی ڈپازٹ

-/10,000 روپے سالانہ یا -/100,000 روپے کاسکیو برہی ڈپازٹ

-/15,000 روپے سالانہ یا -/120,000 روپے کاسکیو برہی ڈپازٹ

تجربہ کے 30 دنوں کے اندر میں ادائیگی کرنے کی صورت میں 10 فیصد تاخیر سے ادائیگی کی فیس لاگو ہوگی۔

-/8,500 روپے بشمول اصل اخراجات

-/3,750 روپے

-/5,750 روپے

-/6,750 روپے

-/90 روپے (اندرون شہر)

-/180 روپے (بیرون شہر)

-/25 روپے فی لیف (اگر اوسط بیلنس -/50,000 روپے سے کم ہے)

-/12.5 روپے فی لیف (پہلی چیک کیلئے یا اگر اوسط بیلنس -/50,000 سے زائد ہو)

ماہانہ 50 روپے اگر اوسط بیلنس -/50,000 روپے سے کم ہو، کامیاب برنس اکاؤنٹ، پی ایل ایس

سیونگ، پی بی اے، آسان کرنٹ اکاؤنٹ اور JIS آسان سیونگ اکاؤنٹ، روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ،

JIS ایلیمینٹ کرنٹ اکاؤنٹ، JIS ایلیمینٹ پلس کرنٹ اکاؤنٹ، JIS پائیم برنس اکاؤنٹ اور JIS پرمیئم

کرنٹ اکاؤنٹ اس سے متعلق ہیں۔

-/575 روپے فی چیک

(iii) ڈیپٹ پین (PIN) اجراء اور تبدیلی

(iv) ٹی پی آئی پین (TPIN) کا اجراء اور تبدیلی

(v) ڈیپٹ، (کارڈ بلاک کرنا)

-H متفرق چارجز

(i) ہمارے ذریعے نکلوائے گئے چیکس کی ادائیگی کو روکنا

(ii) ڈیپٹ اسٹینٹ

(iii) ڈیپٹ مشورے

(iv) بیلنس سرٹیفکیٹس

(v) آڈیٹڈ بیلنس کی تصدیق

(vi) اکاؤنٹ چیک کا اجراء

(vii) اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز (کسٹمر کی درخواست پر)

(viii) 6 ماہ یا اس سے پہلے وصول کی گئی ترسیل کیلئے منافع کے

سرٹیفکیٹس کا اجراء

(ix) متفرق سرٹیفکیٹس

(x) رقم جمع کرنے کیلئے محفوظ لا کرز

(a) چھوٹا

(b) درمیانہ

(c) بڑا

(d) پرائیویٹ۔ چھوٹا

(e) پرائیویٹ۔ بڑا

(xi) محفوظ ڈپازٹ ختم کرنے کے چارجز

(xii) چالنی جمع کرنا

(لا کر کی حوالگی پر قابل واپسی)

(a) چھوٹا

(b) درمیانہ

(c) بڑا

(xiii) ڈرافٹس/بے آرڈرز/دیگر دستاویزات پر

محصول ڈاک/کوریر چارجز

(xiv) چیک بکس کا اجراء

(xv) اکاؤنٹ منیجمنٹس چارجز

(xvi) ایک ہی دن چیکس کی کلیرنگ/بیرون شہر کی کلیرنگ

(xvii) ٹرانزیکشن چارجز

- (a) اندرون شہر آن لائن بینکنگ
(b) بیرون شہر بینکنگ چارجز (آؤٹ ورڈ)
(c) آن لائن ٹرانزیکشن چارجز (بیرون شہر)

(xviii) ٹرانزیکشن پارٹی کی درخواست پر ہماری جانب سے جاری کردہ گورنمنٹ سکیورٹیز پر نقد لین اور استحقاق کیلئے فیس
(xix) گورنمنٹ سکیورٹیز (SSC, DSC, USDB) کی مدد میں نقد لین/سرہائے کے سرٹیفکیٹس کے اجراء کیلئے فیس

(xx) ایکسائز/اسٹیمپ ڈیوٹی

(xxi) اسٹیمپ چیک آف پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سکیورٹیز (آئی پی ایس) پر تجویلی خدمات کے چارجز

فی واقعہ بینکس 1 ملین روپے تک ہونے پر
فی واقعہ بینکس 1 ملین روپے سے زائد ہونے پر

آئی پی ایس منتقلی کے چارجز

(xxii) ہولڈنگ

(xxiii) ٹیکس اور ایجنسیوں کے لئے ٹرانزیکشن فیس:

تمام اکاؤنٹس کیلئے مفت

اوسط بینکس -/50,000 روپے سے کم ہونے صورت میں -/375 روپے فی ٹرانزیکشن
(تمام ایس سی وائے (LCY) کرنٹ اکاؤنٹس کے علاوہ)
اوسط بینکس -/50,000 روپے سے کم ہونے صورت میں -/375 روپے فی ٹرانزیکشن
(تمام ایس سی وائے (LCY) کرنٹ اکاؤنٹس کے علاوہ)

-/50 روپے فی اسکرپ - زیادہ سے زیادہ -/1,000 روپے

-/575 روپے فی سرٹیفکیٹ

قوانین کے مطابق

کوئی چارج نہیں

0.020 فیصد فی واقعہ

-/1,000 روپے (فلیٹ) فی ٹرانزیکشن

-/600 روپے سالانہ

ٹائمر
100,000 روپے تک
100,001 روپے سے 1,000,000 روپے
1,000,001 روپے سے زائد

فیس
-/10 روپے
-/20 روپے
-/50 روپے

I- فیس رعایات

(i) JS برنس رابطہ کرنٹ اکاؤنٹ *

ماہانہ اوسط بینکس:

(a) چیک بک کا اجراء **

(b) پی آر ڈر

(c) انٹرنیٹ بینکنگ

(d) پلانٹیم ڈیپٹ کارڈ کی سالانہ فیس **

(e) بیرون شہر بینکنگ

(f) ایک ہی دن بینکنگ

(g) ایس ایم ایس الرٹس **

(h) موبائل بینکنگ

(i) پی آر ڈر/ڈیماٹ ڈرافٹ کی منسوخی

(j) چیک کی وصولی (مقامی)

-/250,000 روپے اور زائد

-/250,000 یا اس سے زائد بینکس برقرار کرنے پر: مفت چیک بک (100 لینف پر مشتمل)
اگر ماہانہ اوسط بینکس -/250,000 سے کم ہے: چارجز بھاپن SOC

مفت

مفت

مفت

بھاپن شیڈول آف چارجز

بھاپن شیڈول آف چارجز

مفت

مفت

بھاپن شیڈول آف چارجز

بھاپن شیڈول آف چارجز

(k) روکی ہوئی سیل	بمطابق شیڈول آف چارجز
(l) ادا ہوئی روکنا	بمطابق شیڈول آف چارجز
(m) کوریئر/موصول ڈاک	بمطابق شیڈول آف چارجز
(n) اسٹیٹ کا اجراء	بمطابق شیڈول آف چارجز
(o) بیلنس سرٹیفکیٹ	بمطابق شیڈول آف چارجز

* انفرادی، تہا ملکیت، بشر اکث داری، پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز کیلئے لاگو۔

** گزشتہ ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز معاف ہوں گے۔ پہلے مکمل ہوئے والے ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز لاگو ہوں گے۔ چارجز ماہ میں کھولے گئے اکاؤنٹ کی صورت میں، اکاؤنٹ میں اصل رقم کی بنیاد پر معافی دی جائے گی۔

*** گزشتہ ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز معاف ہوں گے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں چارجز دن کے اختتام پر ختم ہونے والے بیلنسز کے مطابق واپس کئے جائیں گے۔

II JS پریچس رابطہ کرٹ اکاؤنٹ ماہانہ اوسط بیلنس:

(a) چیک بک کا اجراء *	250,000/- اور اس سے زائد
(b) انٹرنیٹ بینکنگ	مفت
(c) سہ آرڈرز	مفت
(d) پلانٹڈ ڈیٹ کارڈ کی سالانہ فیس *	مفت
(e) بیرون شہر کیریئرنگ	بمطابق شیڈول آف چارجز
(f) اسی دن ٹرانزیکشن	بمطابق شیڈول آف چارجز
(g) ایس ایم ایس / آرٹس *	مفت
(h) موبائل بینکنگ	مفت
(i) سہ آرڈرز / ڈیماٹڈ ڈرافٹ کی منسوخی	بمطابق شیڈول آف چارجز
(j) چیک کی وصولی (مقامی)	بمطابق شیڈول آف چارجز
(k) روکی ہوئی سیل	بمطابق شیڈول آف چارجز
(l) ادا ہوئی روکنا	بمطابق شیڈول آف چارجز
(m) کوریئر/موصول ڈاک	بمطابق شیڈول آف چارجز
(n) اسٹیٹ کا اجراء	بمطابق شیڈول آف چارجز
(o) بیلنس سرٹیفکیٹ	بمطابق شیڈول آف چارجز

* گزشتہ ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز معاف ہوں گے، پہلے مکمل ہونے والے ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز لاگو ہوں گے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں اکاؤنٹ کے اصل بیلنس کی بنیاد پر معافی دی جائے گی۔

** گزشتہ ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز معاف ہوں گے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں چارجز دن کے اختتام پر ختم ہونے والے بیلنسز کے مطابق واپس کئے جائیں گے۔

III JS پریچس رابطہ کرٹ اکاؤنٹ ماہانہ اوسط بیلنس:

(a) چیک بک کا اجراء	150,000/- اور اس سے زائد
(b) انٹرنیٹ بینکنگ	بمطابق شیڈول آف چارجز
(c) گولڈ ڈیٹ کارڈ کی سالانہ فیس *	مفت
(d) بیرون شہر کیریئرنگ	مفت
(e) اسی دن ٹرانزیکشن	بمطابق شیڈول آف چارجز
(f) ایس ایم ایس / آرٹس	بمطابق شیڈول آف چارجز
(g) موبائل بینکنگ	مفت
(h) سہ آرڈرز / ڈیماٹڈ ڈرافٹ کی منسوخی	بمطابق شیڈول آف چارجز

(i) چیک کی وصولی (مقامی)	بمطابق شیڈول آف چارجز
(j) روپی ہوئی میل	بمطابق شیڈول آف چارجز
(k) ادائیگی رونما	بمطابق شیڈول آف چارجز
(l) کوریئر/موصول ڈاک	بمطابق شیڈول آف چارجز
(m) اسٹینٹ کا اجراء	بمطابق شیڈول آف چارجز
(n) بیلنس سرٹیفکیٹ	بمطابق شیڈول آف چارجز

* گزشتہ ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز معاف ہونگے، سیکممل ہونے والے ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز لاگو ہونگے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں اکاؤنٹ کے اصل بیلنس کی بنیاد پر معافی دی جائے گی۔

** گزشتہ ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز معاف ہونگے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں چارجز دن کے اختتام پر ختم ہونے والے بیلنس کے مطابق واپس کئے جائیں گے۔

(iv) JS پیئر ریبلڈ کرنٹ اکاؤنٹ ماہانہ اوسط بیلنس:

(a) چیک بک کا اجراء*	-/150,000 اور اس سے زائد
(b) انٹرنیٹ بینکنگ	اگر اوسط بیلنس -/150,000 روپے اور اس سے زائد ہو: 4 چیک کس تک مفت۔ ہر ایک 25 لیف پر مشتمل
(c) پلے آرڈرز	اگر اوسط بیلنس -/150,000 روپے سے کم ہو: شیڈول آف چارجز کے مطابق چارجز
(d) کلاسیک ڈیبٹ کارڈ کی سالانہ فیس*	مفت
(e) بیرون شہر ٹرانزیکٹ	ماہانہ 2 مفت
(f) ای دن ٹرانزیکٹ	مفت
(g) ایس ایم ایس / ایس	بمطابق شیڈول آف چارجز
(h) موبائل بینکنگ	بمطابق شیڈول آف چارجز
(i) پلے آرڈر / ڈیماڈ ڈرافٹ کی منسوخی	بمطابق شیڈول آف چارجز
(j) چیک کی وصولی (مقامی)	بمطابق شیڈول آف چارجز
(k) روپی ہوئی میل	بمطابق شیڈول آف چارجز
(l) ادائیگی رونما	بمطابق شیڈول آف چارجز
(m) کوریئر/موصول ڈاک	بمطابق شیڈول آف چارجز
(n) اسٹینٹ کا اجراء	بمطابق شیڈول آف چارجز
(o) بیلنس سرٹیفکیٹ	بمطابق شیڈول آف چارجز

* گزشتہ ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز معاف ہونگے، سیکممل ہونے والے ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز لاگو ہونگے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں اکاؤنٹ کے اصل بیلنس کی بنیاد پر معافی دی جائے گی۔

** گزشتہ ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر چارجز معاف ہونگے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں چارجز دن کے اختتام پر ختم ہونے والے بیلنس کے مطابق واپس کئے جائیں گے۔

(v) JS پیئر ریبلڈ کرنٹ اکاؤنٹ ماہانہ اوسط بیلنس:

(a) چیک بک کا اجراء*	-/75,000 روپے اور اس سے زائد
(b) انٹرنیٹ بینکنگ	بمطابق شیڈول آف چارجز
(c) ڈیبٹ کارڈ کی سالانہ فیس	مفت
(d) بیرون شہر ٹرانزیکٹ	بمطابق شیڈول آف چارجز
(e) ای دن ٹرانزیکٹ	بمطابق شیڈول آف چارجز
(f) ایس ایم ایس / ایس	بمطابق شیڈول آف چارجز
(g) موبائل بینکنگ	بمطابق شیڈول آف چارجز
(h) پلے آرڈر / ڈیماڈ ڈرافٹ کی منسوخی	بمطابق شیڈول آف چارجز

(i) چیک کی وصولی (مقامی)	بمطابق شیڈول آف چارجز
(j) روٹی ہوئی میل	بمطابق شیڈول آف چارجز
(k) ادائیگی روکنا	بمطابق شیڈول آف چارجز
(l) کوریئر/موصول ڈاک	بمطابق شیڈول آف چارجز
(m) اسٹیٹمنٹ کا اجراء	بمطابق شیڈول آف چارجز
(n) بینکس سرٹیفکیٹ	بمطابق شیڈول آف چارجز

* گزشتہ ماہ کے اوسط بینکس کی بنیاد پر چارجز معاف ہونگے، سیکممل ہونے والے ماہ کے اوسط بینکس کی بنیاد پر چارجز لاگو ہونگے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں اکاؤنٹ کے اصل بینکس کی بنیاد پر معافی دی جائے گی۔

** گزشتہ ماہ کے اوسط بینکس کی بنیاد پر چارجز معاف ہونگے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں چارجز دن کے اختتام پر ختم ہونے والے لیٹنسر کے مطابق واپس کئے جائیں گے۔

(vi) JS پیمائش پر اس کاؤنٹ*

بمطابق اوسط بینکس:

(a) چیک بک کا اجراء**	-/150,000 اور اس سے زائد
	اگر اوسط بینکس -/150,000 روپے اور زائد ہو: چیک بک (100 لیفٹ تک)۔ مفت
	اگر اوسط بینکس -/150,000 روپے سے کم ہو: ایک چیک بک مفت (50 لیفٹ) کلینڈر کے ہر ماہ
(b) انٹرنیٹ بینکنگ	مفت
(c) پلاٹیفارم ڈیجیٹل کارڈ کی سالانہ فیس**	مفت
(d) بیرون شہر کسٹمرنگ	مفت
(e) اسی دن کسٹمرنگ	مفت
(f) SMS/ارٹس**	مفت
(g) ATM سے کیش نکالنے کی فیس	مفت (چارجز روزانہ واپس کئے جاتے ہیں)
(h) (1-Link & M-Net)***	مفت
(i) سپر آرڈر کا اجراء**	مفت
(j) سپر آرڈر ڈیجیٹل ڈرافٹ کی منسوخی	مفت
(k) چیک کی وصولی (مقامی)	مفت
(l) روٹی ہوئی میل	مفت
(m) ادائیگی روکنا	مفت
(n) کوریئر/موصول ڈاک	مفت
(o) اسٹیٹمنٹ کا اجراء	مفت
(p) بینکس سرٹیفکیٹ	مفت

* انفرادی، تہنیکیت، پارٹنرشپ، پبلک اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز پر لاگو

** گزشتہ ماہ کے اوسط بینکس کی بنیاد پر چارجز معاف ہونگے، سیکممل ہونے والے ماہ کے اوسط بینکس کی بنیاد پر چارجز لاگو ہونگے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں اکاؤنٹ کے اصل بینکس کی بنیاد پر معافی دی جائے گی۔

*** گزشتہ ماہ کے اوسط بینکس کی بنیاد پر چارجز معاف ہونگے۔ اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کھولے جانے کی صورت میں چارجز دن کے اختتام پر ختم ہونے والے لیٹنسر کے مطابق واپس کئے جائیں گے۔

(vii) JS پیمائش پر اس کاؤنٹ

بمطابق اوسط بینکس:

(a) چیک بک کا اجراء	100,000 روپے اور اس سے زائد
(b) انٹرنیٹ بینکنگ	بکلی چیک بک مفت (50 لیفٹ تک) اوسط بینکس سے قطع نظر
(c) گولڈ ڈیجیٹل کارڈ سالانہ فیس**	مفت
(d) بیرون شہر کسٹمرنگ	مفت
(e) اسی دن کسٹمرنگ	مفت

ایک چھوٹا لاکر مفت	(f) لاکرز* (کرایہ)
مفت (چار ہزار روپے واپس کئے جاتے ہیں) بٹلیس سے قطع نظر	(g) اسے ٹی ایم سے رقم نکلوانے کی نہیں
	(1-Link & M-Net)
ہر ماہ چار مفت	(h) پے آرڈر کا اجراء**
مفت	(i) پے آرڈر ڈیماٹڈ رافٹ کی منسوخی
	* جس براؤچ میں اکاؤنٹ موجود ہے اس میں خالی لاکر کی دستیابی سے مشروط
	** گزشتہ ماہ کے اوسط بٹلیس کی بنیاد پر چار ہزار روپے واپس کئے جاتے ہیں۔
	پہلے مکمل ہونے والے ماہ کے اوسط بٹلیس کی بنیاد پر چار ہزار روپے واپس کئے جاتے ہیں۔
	میں اکاؤنٹ کے اصل بٹلیس کی بنیاد پر معافی دی جائے گی۔

viii) کامیاب بٹلیس اور LCY کرنٹ اکاؤنٹ

100,000 روپے ماہوار اس سے زائد	ماہانہ اوسط بٹلیس***
مفت	(a) کارڈنگ
مفت	(b) ٹیکسٹن چیک (مقامی)
مفت	(c) روکی ہوئی بیل
مفت	(d) ادائیگی روکنا
مفت (100 لیفٹ تک)	(e) چیک بک کا اجراء
مفت	(f) پے آرڈر ڈیماٹڈ رافٹ کا اجراء
مفت	(g) کوریئر/موصول ڈاک
مفت	(h) اسٹیٹمنٹ کا اجراء
مفت	(i) بٹلیس سرٹیفکیٹ
ایک چھوٹا لاکر مفت	(j) لاکرز* (کرایہ)
مفت	(k) کلاسک ڈیٹ کارڈ سالانہ نہیں**
مفت	(l) بیرون شہر ٹریگٹ
مفت	(m) اسی دن ٹریگٹ
مفت	(n) پے آرڈر ڈیماٹڈ رافٹ کی منسوخی
	* جس براؤچ میں اکاؤنٹ موجود ہے اس میں خالی لاکر کی دستیابی سے مشروط
	** انٹراوی، تنہا ملکیت اور پارٹنرشپ اکاؤنٹس پر لاگو
	*** گزشتہ ماہ کے اوسط بٹلیس کی بنیاد پر چار ہزار روپے واپس کئے جاتے ہیں۔
	اکاؤنٹ کے حالیہ ماہ کو ملے جانے کی صورت میں اکاؤنٹ کے اصل بٹلیس کی بنیاد پر معافی دی جائے گی۔

ix) JS بلیٹ کرنٹ اکاؤنٹ

پہلی چیک بک مفت (10 لیفٹ)	(a) چیک بک کا اجراء
مفت	(b) انٹرنیٹ بینکنگ
مفت	(c) کلاسک ڈیٹ کارڈ سالانہ نہیں
مفت (چار ہزار روپے واپس کئے جاتے ہیں)	(d) اسے ٹی ایم سے رقم نکلوانے کی نہیں (1-Link & M-Net)
پہلے تین ماہ تک مفت	(e) ایس ایم ایس آرٹس
مفت	(f) آئی ٹی ایف ٹی
600/- روپے سالانہ پر سبسڈ انڈر	(g) موبائل بینکنگ
	(x) JS بلیٹ بٹلیس کرنٹ اکاؤنٹ
سالانہ 4 چیک بک تک (25 لیفٹ)	(a) چیک بک کا اجراء

(xiii) محبت دین کاؤنٹ**

مفت سروسز

- (a) چیک بک کا اجراء
- (b) کلا سبک ڈیپٹ کارڈ سالانہ فیس
- (c) آن لائن بینکنگ
- (d) پی آرڈر اور ڈیپٹ ڈرافٹس کا اجراء
- (e) ٹیلی بینکنگ سروسز

مفت اضافی سروسز

- (a) اضافی چیک بک کا اجراء
- (b) کاؤنٹر چیکس
- (c) روکی ہوئی بیل
- (d) ادا ہونے والی روکنا
- (e) کوریئر وصول ڈاک
- (f) اسٹینٹ کا اجراء
- (g) بیلنس سرٹیفکیٹ
- (h) لاکرز* (کرایہ)
- (i) بیرون شہر کٹرنگ
- (j) اسی دن کی کٹرنگ

کلی چیک بک مفت (25 لائف)

مفت

مفت

مفت

مفت

100,000/- روپے اور زائد مالیات اور بیلنس***

کلی مفت چیک بک (50 لائف تک)

مفت

مفت

مفت

مفت

مفت

مفت

ایک چھوٹا لا کر مفت

مفت

مفت

* جس برانچ میں کاؤنٹ موجود ہے اس میں خالی لاکر کی دستیابی سے مشروط

** انفرادی، تہا ملکیت اور پارٹنرشپ کاؤنٹس پر لاگو

*** چار ہزار روپیہ ماہ کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر معاف کئے جاتے ہیں۔

ج۔ انویسٹمنٹ بینک

- (i) مشاورتی اور انتظامی فیس
 - (ii) پلیٹمنٹ اور اسٹرکچرنگ فیس
 - (iii) انڈر رائٹنگ کمیشن
 - (iv) ٹرنٹی فیس ٹرم فنانس سرنگلیٹ (TFC)
 - (v) ٹرنٹی فیس میوچل فنڈز
 - (vi) معاملے سے متعلق بینکر
 - (vii) پروجیکٹ فنانس کی از سر نو ترتیب اور دوبارہ شیڈولنگ و لنک بشمول رقم نگلوانے پر پابندی/الٹو اے ادا نیگی کی فیس
- * آؤٹ آف پاکٹ اخراجات پر علیحدہ سے گنت و شمید کی جاسکتی ہے۔

سیول ڈپازری سسٹم (CDS) میں رکھے جانے والے W.R.T

اکاؤنٹس کی تجویزی خدمات

ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کی فیس

ابتدائی ڈپازٹ کی فیس

حصص کیلئے

TFCs کیلئے

WAPDA بونڈز کیلئے

پینس کیلئے

فرائض فیس

حصص کیلئے

TFCs کیلئے

WAPDA بونڈز کیلئے

پینس کیلئے

حوالہ کی فیس

حصص کیلئے

TFCs کیلئے

WAPDA بونڈز کیلئے

پینس کیلئے

مجموعہ سیکیورٹیز

اہم حصص یا فنڈنگ

جاری کردہ سائز کا 1.5 فیصد تک

جاری کردہ سائز کا 1 فیصد تک

انڈر رائٹن رقم کا 1 فیصد تک

ہر سال کے آغاز میں قابل ادا نیگی اصل TFC رقم کا 0.05 فیصد تک

نیٹ ایسٹ و پلیو (NAV) کا 0.75 فیصد تک

سبسکرائب کی گئی رقم کا 0.5 فیصد تک

پارٹی کے ساتھ معاہدے کے تحت معاملے کی بنیاد پر

-/500 روپے (فی اکاؤنٹ)

-/0.05 روپے (ڈپازٹ کیا جائیو لانی حصص)

کوئی نہیں

کوئی نہیں

-/0.015 روپے (ڈپازٹ کیا جائیو لانی فونٹ)

0.005 فیصد فی فرائض فیس مارکیٹ و پلیو

0.005 فیصد فی فرائض فیس مارکیٹ و پلیو

0.005 فیصد فی فرائض فیس مارکیٹ و پلیو

0.005 فیصد فی فرائض فیس مارکیٹ و پلیو

0.025 فیصد سالانہ (مارکیٹ و پلیو)

0.025 فیصد سالانہ (مارکیٹ و پلیو)

0.025 فیصد سالانہ (مارکیٹ و پلیو)

0.025 فیصد سالانہ (بولی یا آفر پرائس)

0.025 فیصد سالانہ (کلوزنگ کی آخری شرح جب سیکیورٹی ہالک کی گئی)

0.025 فیصد سالانہ (مارکیٹ و پلیو)

رقم کھلانے کی فیس

حصص کیلئے

TFCs کیلئے

WAPDA بوئڈز کیلئے

پینس کیلئے

اسٹینڈٹ کی درخواست کی فیس

رہن رکھنے کی سکیم پر نئی فیس

رہن رکھنے کے لئے سہل کی فیس

حصص کیلئے

TFCs کیلئے

WAPDA بوئڈز کیلئے

پینس کیلئے

K۔ JS کا نام ٹرانز

- عملدرآمد کے چارجز (قانونی دستاویزات کی تصدیق کے ساتھ)
- اپریل فیس (استعمال شدہ/درآمد شدہ گاڑیاں)
- تاخیر سے ادائیگی کی فیس
- گاڑی کے قبضے کی بحالی کے چارجز
- رہنڈا بھجوت کے ذریعے تصفیہ
- انشورنس چارجز
- قبضے کی بحالی والی گاڑیوں کے اسٹوریج چارجز
- قبل از وقت ادائیگی کے چارجز
- ٹرکرا کیٹیوریٹ کرنے کے چارجز
- مقدمہ بازی کے چارجز
- نقد وصولی کے چارجز
- چیک واپسی کے چارجز
- ڈوکیمنٹ NOC کا اجراء
- آمدنی کا تنہید

-/0.15 روپے (نی حصص)

-/75 روپے (نی پونٹ)

-/75 روپے (نی واپڈا بوئڈ)

-/0.15 روپے (نی پونٹ)

-/15 روپے نی صفحہ 1-175 روپے نی اسٹینڈٹ درخواست، جو بھی زیادہ ہو

-/0.01 فی سکیورٹی/نی حصص

-/0.02 (نی حصص)

-/0.02 (نی پونٹ)

-/0.02 (نی واپڈا بوئڈ)

-/0.02 (نی پونٹ)

-/7,500 روپے

اصل کے مطابق

-/1,100 روپے نی واقعہ

اصل پر (کم از کم -/35,000 روپے کارکی ویلیو پر منحصر/ قبضے کی بحالی، ری لوکیشن اور قرض کی بقید رقم)

-/15,000 روپے

اصل پر

اصل پر (کم از کم -/2,500 روپے ماہانہ)

صرف پہلے دو سال میں اصل زر کا 7 فیصد

اصل پر

اصل پر

-/800 روپے/وزٹ

-/1,000 روپے/چیک واپسی

-/1,500 روپے

اصل پر

L۔ ٹرم ڈپازٹ جرمانے کے چارجز

ٹرم ڈپازٹ (کسی بھی ٹرم) کی جلد اگلی از وقت کلیشیٹ پر منافع TDR کی ہنگ کے وقت منظور شدہ پالیسی کے مطابق، لاگو یک دیش پر آخری عمل بیان کردہ مدت یا سکر کے ساتھ کئے گئے معاہدے کے مطابق دیا جائیگا۔

-/10,000 روپے

اصل پر

اصل پر

اصل پر

بقیہ اصل زرکا 5 فیصد

بقیہ اصل زرکا 5 فیصد

بقیہ اصل زرکا 4 فیصد

بقیہ اصل زرکا 3 فیصد

بقیہ اصل زرکا 2 فیصد

بقیہ اصل زرکا 1 فیصد

کوئی نہیں

اصل پر

-/1,000 روپے فی واقعہ

-/900 روپے ہر چیک واپسی پر

ادائیگی کا 3 فیصد

30 فیصد سالانہ

-/1,000 روپے بشمول FED

-/500 روپے بشمول FED

5 فیصد

-/500 روپے بشمول FED

اصل پر

اصل پر

-/2,000 روپے

پہلی چیک بک مفت (10 لیف)

-/800 روپے

سرمایہ کار مارک اپ واجب ہونے کے 15 دن کے اندر ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں -/200 روپے جرمانہ ہر دن

اصل پر

کم از کم -/3,000 روپے

کم از کم -/3,000 روپے

کم از کم -/3,000 روپے

کم از کم 5,000 روپے یا قرض کی رقم 0.5 فیصد (جو بھی زائد ہو)

اصل پر

اصل پر

کم از کم 5,000 روپے یا قرض کی رقم 0.5 فیصد (جو بھی زائد ہو)

اصل پر

اصل پر

M۔ JS گھراپنا ہوم لوز

(i) عملدرآمد کی فیس

(ii) قانونی دستاویزات

(iii) قیمت کے تخمینے کے چارجز

(iv) قانونی رائے

(v) قبل از وقت ادائیگی کے چارجز

(vi) دوسرے بینکوں میں بٹلس کی منتقلی (بی ٹی ایف)

(vii) قبل از وقت ادائیگی کے چارجز۔ عمل تصفیہ

پہلے سال

دوسرے سال

تیسرے سال

چوتھے سال

پانچویں سال

چھٹے سال اور اس کے بعد

(vii) آمدنی کا تخمینہ

(viii) تاخیر سے ادائیگی کی فیس

(ix) چیک واپسی کے چارجز

(x) بلیوں معتمد / جزوی تصفیہ، سال میں ایک مرتبہ (واجب الادا

رقم کار زیادہ سے زیادہ 25 فیصد)

پانچواں اضافہ

(i) سروں چارجز / مارک اپ کی شرح

(ii) عملدرآمد کی فیس

(iii) تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

(iv) قبل از وقت ادائیگی پر جرمانہ

(v) چیک کی واپسی / خود کار ادائیگی کی منسوخی کی فیس

(vi) اشیا کی ڈیوری کے چارجز

(viii) مقدمہ بازی کے چارجز

O۔ JS نوری فنانس

(i) درخواست کے چارجز

(ii) چیک بک کا اجراء

(iii) منسوخی کے عملدرآمد کے چارجز

(iv) تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

(v) قانونی دستاویز کی تصدیق

P۔ SME

(i) انتظامی فیس

(ii) جائزے کی فیس

(iii) عبوری فیس

Q۔ JS اسارٹ روشنی۔ سولر پینل فنانسنگ

(i) عملدرآمد کی فیس

(ii) انشورنس چارجز

(iii) قانونی دستاویزات

R۔ JS اسکول ڈیولپمنٹ فنانس

(i) عملدرآمد کی فیس

(ii) انشورنس چارجز

(iii) قانونی دستاویزات

- S JS گولڈ فنانس / زرغیر گولڈ فنانس

- (i) عملدرآمد کے چارجز
- a(i) ای دن ادائیگی کی فیس
- (ii) عملدرآمد کے چارجز - نرم فنانس
- (iii) سناری جالچ کے چارجز
- (iv) قانونی دستاویزات کی تصدیق
- (v) بونس کی فوری ادائیگی
- (vi) سہولت کی تجدید پر عملدرآمد کے چارجز

- T JS چیک کریڈٹ کارڈ

- (i) جوائنٹ فیس
- (ii) چیک کارڈ - سالانہ فیس

گولڈ

پلاٹینم

سکینچر

- (iii) سلیمنٹری کارڈ - سالانہ فیس
- کلاسک

گولڈ

پلاٹینم

سکینچر

- (iv) فنانس چارجز - APR

ریشیل

کیش ایڈوانس

بیلنس کی منتقلی / کیش آن کال

کارڈ انعامیٹ پلان

(v) کیش ایڈوانس فیس

(vi) تاخیر سے ادائیگی کی فیس

(vii) حد سے تجاوز کی فیس

(viii) ریٹرن چیک

(ix) کارڈ کی تبدیلی کی فیس

کلاسک

گولڈ

پلاٹینم

سکینچر

(x) بیلنس کی منتقلی / کیش آن کال پر عملدرآمد کی فیس

(xi) کریڈٹ پروڈیکٹر

سونے کی قیمت کا 1.2 فیصد (زیادہ سے زیادہ) 12,000/- روپے

-/2,000 روپے

سونے کی قیمت کا 1.5 فیصد (زیادہ سے زیادہ) -/15,000 روپے

-/20 روپے فی گرام (کم از کم 1,500 روپے)

اصل پر

2 فیصد لون کی رقم میں شامل (مقررہ تاریخ پر ادائیگی کی صورت میں)۔

-/3,000 روپے

کوئی نہیں

پہلے سال فیس معاف: دوسرے سال سے -/2,400 روپے (کارڈ کے اجراء کے دو ماہ کے

اندز -/5,000 روپے کے خرچ پر معاف)

پہلے سال فیس معاف: دوسرے سال سے -/4,000 روپے (کارڈ کے اجراء کے دو ماہ کے

اندز -/7,500 روپے کے خرچ پر معاف)

پہلے سال فیس معاف: دوسرے سال سے -/7,000 روپے (کارڈ کے اجراء کے دو ماہ کے

اندز -/10,000 روپے کے خرچ پر معاف)

پہلے سال فیس معاف: دوسرے سال سے -/20,000 روپے (کارڈ کے اجراء کے دو ماہ کے

اندز -/50,000 روپے کے خرچ پر معاف)

پہلے سال فیس معاف: دوسرے سال سے -/1,200 روپے (کارڈ کے اجراء کے دو ماہ کے

اندز -/5,000 روپے کے خرچ پر معاف)

پہلے سال فیس معاف: دوسرے سال سے -/2,000 روپے (کارڈ کے اجراء کے دو ماہ کے

اندز -/7,500 روپے کے خرچ پر معاف)

پہلے سال فیس معاف: دوسرے سال سے -/3,500 روپے (کارڈ کے اجراء کے دو ماہ کے

اندز -/10,000 روپے کے خرچ پر معاف)

پہلے سال فیس معاف: دوسرے سال سے -/10,000 روپے (کارڈ کے اجراء کے دو ماہ کے

اندز -/25,000 روپے کے خرچ پر معاف)

40 فیصد (3.33 فیصد فی ماہ)

40 فیصد (3.33 فیصد فی ماہ)

24 فیصد تک (2 فیصد فی ماہ)

27 فیصد تک

3 فیصد یا -/1,200 روپے، جو بھی زیادہ ہو

-/1,500 روپے

کوئی نہیں

-/900 روپے

-/500 روپے

-/800 روپے

-/1,200 روپے

-/3,000 روپے

-/700 روپے فی ٹرانسفر

واجب الادا رقم 0.48 فیصد

3.50 فیصد

-/300 روپے

-/850 روپے

کوئی نہیں

-/500 امریکی ڈالر

اصل پر

-/1,200 روپے

-/500 روپے

-/500 روپے

-/25 روپے

27 فیصد سالانہ تک

1 فیصد یا -/3,000 روپے جو بھی زیادہ ہو

-/1,000 روپے

واجب الادا رقم کا 5 فیصد

جزوی ادائیگی کا 5 فیصد

بمطابق شیڈول آف چارجز

بمطابق شیڈول آف چارجز

-/2,000 روپے

ماہانہ واجب الادا رقم پر 0.48 فیصد

اصل پر

کوئی نہیں

کوئی نہیں

کوئی نہیں

30.00 فیصد سالانہ

-/3,000 روپے

-/2,000 روپے

-/1,500 روپے

ماہانہ واجب الادا رقم پر 0.48 فیصد

-/1,000 روپے

بمطابق شیڈول آف چارجز

کوئی نہیں

کوئی نہیں

-/2,000 روپے

-/500 روپے

(xii) اینٹرنیشنل POS/ATM

(xiii) دستاویز کے حصول کے چارجز

مقامی

(xiv) دستاویز کے حصول کے چارجز

بین الاقوامی

(xv) ایس ایم ایس آرٹس

(xvi) مٹاؤ عذرانہ یکسٹر کیلئے ٹاشی کے چارجز

(xvii) مقدمہ بازی کے چارجز

(xviii) خود کار ادائیگی کی منسوقی کی سروس فیس

کارڈ انعامت پلان کے عملدرآمد کی فیس

CIP کیسٹل/قبل از وقت تصفیہ کی فیس

یوٹیلیٹی بل کی ادائیگی کی فیس

- U پوسٹل انعامت لون

(i) سروس چارجز - مارک اپ کی شرح

(ii) عملدرآمد کی فیس

(iii) تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

(iv) قبل از وقت ادائیگی پر جرمانہ

(v) جزوی ادائیگی پر جرمانہ

(vi) ڈیبٹ کارڈ فیس

(vii) چیک بک فیس

(viii) اضافہ/ٹاپ اپ

(ix) کریڈٹ پروٹیکٹر

(x) مقدمہ بازی کے چارجز

(xi) کم از کم بیلنس برقرار رکھنے پر جرمانہ

(xii) بے آرڈر کا اجراء

(xiii) بے آف شیڈ کا دوبارہ اجراء

- V سکنز یومر رنگ فائض

(i) سروس چارجز - مارک اپ کی شرح

(ii) عملدرآمد کی فیس

(iii) سالانہ تجدید کی فیس

(iv) تاخیر سے ادائیگی کی فیس

(v) کریڈٹ پروٹیکٹر

(vi) چیک کی واپسی/خود کار ادائیگی کی منسوقی کی فیس

(vii) چیک بک کی فیس

(viii) آرائیف ڈیبٹ سب رسائی کی فیس

(ix) ایس ایم ایس آرٹس فیس

(x) حد میں اضافہ

(xi) بیلنس کی منتقلی پر عملدرآمد کی فیس

اصل پر
کوئی نہیں
بسطا ہل شیڈول آف چارجز

25 روپے فی اسٹرومنٹ، زیادہ سے زیادہ -/1,000 روپے فی خرید پر (کرنٹ اکاؤنٹ میں
-/100,000 روپے برقرار رکھنے پر معاف کر دیے جائیں گے)
-/500 روپے فی اسٹرومنٹ
-/750 روپے فی اسٹرومنٹ

-/50,000 روپے تک (قابل گفٹ وشنید)
-/25,000 روپے تک فی سروس (قابل گفٹ وشنید)

-/100 روپے تک (قابل گفٹ وشنید)
(قابل گفٹ وشنید)
فی ماہ -/5,000 روپے تک (قابل گفٹ وشنید)
فی ڈیوائس -/15,000 روپے تک (قابل گفٹ وشنید)
قابل گفٹ وشنید
قابل گفٹ وشنید
سالانہ -/50,000 روپے تک (قابل گفٹ وشنید)

-/100 روپے
اصل پر
اصل پر
اصل پر
اصل پر (کم از کم -/35,000 روپے، کار کی قدر، قبضے کی بحالی، ری ایکشن اور قرض کی واجب الادا رقم پر منحصر)
اصل پر (کم از کم -/2,500 روپے، ماہانہ)
اصل پر
-/15,000 روپے
اصل پر

عملدرآمد کے چارجز
-/1,000 روپے
-/3,000 روپے
-/6,500 روپے
-/9,000 روپے
-/12,000 روپے

(xii) مقدمہ بازی کے چارجز
(xiii) کم از کم بیلنس برقرار نہ رکھنے پر جرمانہ
(xiv) سچے رڈز کا اجراء
-W روٹی ٹریڈرز چیک
(i) RTC کا اجراء

(ii) گم شدہ RTC کی منسوخی/دوبارہ اجراء
(iii) گم شدہ RTC کے عوض رقم کی واپسی
-X کیش منیجمنٹ
(i) سسٹم میں ایک بار تکمیل پر
(ii) پروڈکٹ کی ایک بار تکمیل پر
(IFT, IBFT, RTGS, COC) چیک آؤٹ سوسنگ،
ایکپیرس کیش)
(iii) سنگل ٹرانزیکشن چارجز
(iv) ایکپیرس کیش چارجز
(v) ماہانہ منیجمنٹ چارجز
(vi) سکیورٹی ڈیوائس چارجز
(vii) کوریئر چارجز
(viii) کلیمیشن فیس
(ix) سالانہ منیجمنٹ چارجز

-Y پرائم مشنری تھرو فیس لون
(i) درخواست پر ویسٹنگ فیس
(ii) درخواست گزار کی تصدیق/سکیورٹی
(iii) قانونی دستاویز کی اسٹامپنگ
(iv) تفتیش مالیت کے چارجز
(v) گاڑی کیلئے دوبارہ حصول کے چارجز
گاڑی کے قبضے کی بحالی کے بعد رکھنے کے چارجز
ڈیوری چارجز، ٹیکس اور رجسٹریشن فیس
گاڑی کے کابینے کے ڈریبلے قبضے کی بحالی کا تعقیب
(vi) انشورنس چارجز

-Z زرعی قومات
(i) زرعی قومات پر عملدرآمد کی فیس
(a) نئی تہاویز
حد
00.500 ملین روپے تک
00.5001 ملین روپے سے 01.000 ملین روپے تک
01.001 ملین روپے سے 05.000 ملین روپے تک
05.001 ملین روپے سے 10.000 ملین روپے تک
10.001 ملین روپے اور اس سے زائد

(b) معیادہم ہو جانے والے کسٹمر کی تجدید حد

عملدرآمد کے چارجر
1,000/- روپے
2,000/- روپے
4,000/- روپے
6,500/- روپے
8,000/- روپے

0.500 ملین روپے تک
0.501 ملین سے 1.000 ملین روپے تک
1.001 ملین سے 5.000 ملین روپے تک
5.001 ملین سے 10.000 ملین روپے تک
10.001 ملین روپے اور زائد

(c) معیادہم ہونے سے قبل حد میں اضافہ حد

1,000/- روپے
2,000/- روپے
4,000/- روپے
7,500/- روپے
10,000/- روپے

0.500 ملین روپے تک
0.501 ملین سے 1.000 ملین روپے تک
1.001 ملین سے 5.000 ملین روپے تک
5.001 ملین سے 10.000 ملین روپے تک
10.001 ملین روپے اور زائد

(ii) صرف DF کبولت کی صورت میں قبل از وقت ایڈجسٹمنٹ کے چارجر

کوئی نہیں
واجب الا واصل رقم 2 کا فیصد
واجب الا واصل رقم 4 کا فیصد
واجب الا واصل رقم 5 کا فیصد
اصل کے مطابق

معیادہم ہونے سے ایک سال قبل
معیادہم ہونے سے دو سال قبل
معیادہم ہونے سے تین سال قبل
معیادہم ہونے سے چار سال قبل
قانونی چارجر

-50 روپے (انتظامیہ کی صوابدید پر معاف کئے جاسکتے ہیں)

(iv) ایسٹ بینک سے CIB رپورٹ کا انتظام (ٹی کیٹی/فرو)

اصل کے مطابق
اصل کے مطابق

(v) انشورنس چارجر
(vi) دستاویز/تفصیلات/عمل پذیری

نوٹ: ہائی وولیم/کارپوریٹ کسٹمر کی صورت میں جو انٹنگ فیس/اسالانہ فیس متعلقہ بزنس ہیڈ کی تجویز پر معافی کی جاسکتی ہے، اس کے علاوہ پوٹنچ کیشئر کیلئے تہدیلیاں/پوٹنچ کیشئر کیلئے سروس چارجر/ریکوری پرسروس چارجر/نگس کی تہدیلیاں بھی تجویز کردہ تیرف کے مطابق کی جائیں گی، اس کے علاوہ تمام سروسز کو ملحق چارجر بھی وصول کئے جائیں گے۔

عمومی:

- یہ تیرف چھ ماہ کیلئے تمام ذرا تر موشر ہیں اور یکم جولائی 2018 سے لاگو ہوں گے۔
- اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجر ریکوری پیمنٹز/اکاؤنٹس اور JS آسان کرنٹ اکاؤنٹس پر لاگو نہیں ہیں۔
- تمام کیشئر/فیس حکومت پاکستان کی جانب سے وقتاً فوقتاً اعلان کردہ/ترمیم شدہ حکومتی نگس سے مشروط ہیں۔
- مقامی ایجنٹ کے چارجر اصل پر، اگر لاگو ہوں۔
- بینک کسٹمر کے ساتھ طے شدہ چارجر کے مطابق کا تعین کرنے کا حق رکھتا ہے۔
- تمام حکومتی ایکسائز/ڈیوٹی/سکس/ڈک و غیرہ کسٹمر کے اکاؤنٹ پر ہیں اور درج بالا چارجر کے علاوہ منہا کئے جائیں گے۔
- چارجر میں کوئی معافی/آئی کی کی اجازت مجاز اختیار ملی کی منظوری پر دی جائیگی۔

نوٹ:

- 1۔ تمام حکومتی ایکسائز/ڈیوٹی/سکس/ڈک و غیرہ کسٹمر کے اکاؤنٹ پر ہیں اور درج بالا چارجر کے علاوہ منہا کئے جائیں گے۔
- 2۔ ان بینکنگ خدمات پر آؤٹ آف پاکٹ اخراجات وصول کئے جائیں گے جن کا ذکر شیڈول میں نہیں ہے۔
- 3۔ شیڈول کے مطابق ہمارے چارجر کے علاوہ بینک کے گورنمنٹ بنڈز بینک کے چارجر اصل پر وصول کئے جائیں گے۔
- 4۔ کسی بھی کسٹمر (انفرادی، کزنیر/سME/اکرشل/کارپوریٹ) کے متعلقہ چارجر بینک اور متعلقہ کسٹمر کے درمیان معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔
- 5۔ بینک کی انتظامیہ کسی یا تمام چارجر کی درنگی یا معافی کا حق محفوظ رکھتی ہے تاہم ایسی درنگی/معافی متعلقہ بزنس ہیڈ کی منظوری سے مشروط ہوگی۔
- 6۔ بینک انتظامیہ ان اکاؤنٹس پر اضافی چارجر کی وصولی کا حق رکھتی ہے جن میں کام کی غیر معمولی/استعداد مطلوب ہو۔
- 7۔ JS بینک اسٹاف بکری اکاؤنٹس پر چارجر معاف کئے جاتے ہیں ماسوائے لاکر چارجر، IBFT چارجر کسی دوسرے بینک کی ATM سے رقم لگوانے/بیلنس معلوم کرنے کے چارجر اور سالانہ ڈیبٹ کارڈ چارج/میٹنٹس چارجر جو شیڈول آف چارجر کے مطابق وصول کئے جائیں گے۔
- 8۔ غیر سودی چارجر کے حوالے سے بذریعہ JS بینک کی جانب سے تمام کسٹمرز کو نوٹ دیا جاتا ہے کہ اضافہ شدہ چارجر میں تہدیلیاں نوٹ فرمائیں۔ اگر تہدیلیاں شدہ چارجر کسٹمرز کیلئے قابل قبول نہیں ہیں تو وہ بنیادی جرمانے کے معاہدے سے خارج ہو سکتے ہیں، ایسے حقوق پر عملدرآمد 30 جون 2018 تک ہوگا۔

